

طالب علم / طالبہ کا نام _____ تاریخ _____

عزیز والد / والدہ (والدین) / سرپرست (سرپرستان):

ورجینیا میں تمام اسکول ڈویژنوں میں، وہ طلباء جو گھر پر انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں، انہیں انگریزی زبان کی استعداد جانچنے کا ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا وہ دوسری زبان بولنے والوں کے لیے انگریزی (ESOL) کی خدمات کے اہل ہیں یا نہیں۔ کنڈرگارٹن کے طلباء ستمبر میں WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT) لیتے ہیں۔ گریڈ K-12 کے طلباء جو FCPS میں سال کے دوران داخل ہوتے ہیں وہ یا تو، WIDA Measure of Developing English Language™ (MODEL) ٹیسٹ لیتے ہیں یا WIDA Screener لیتے ہیں۔

WIDA™ English language proficiency test کے نتائج کی بنیاد پر، آپ کا بچہ انگریزی زبان کی مہارت کے مطلوبہ معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، آپ کے بچے کو انگریزی زبان میں مہارت کا حامل قرار دیا گیا ہے اور اب وہ دوسری زبان بولنے والوں کے لیے انگریزی (ESOL) کی خدمات کا اہل نہیں رہا۔

اگر آپ کے بچے کے تعلیمی ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ موجودہ WIDA ACCESS for ELLs 2.0™ کی جانچ پر مبنی ESOL کی خدمات وصول کر رہا تھا تو آپ کے بچے کو انگریزی سیکھنے والے کے طور پر دوبارہ نامزد کیا جائے گا جب تک کہ وہ WIDA ACCESS for ELLs 2.0™ کی جانچ کے مطابق انگریزی میں مہارت کے معیار تک نہیں پہنچ جاتا۔

اگر آپ اپنے بچے کے جائزے کے نتائج سے متعلق مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اپنے بچے کے اسکول ٹیچر سے رابطہ کریں۔ اپنے بچے کی تعلیم میں مسلسل مدد فراہم کرنے کا شکریہ۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ آپ کے بچے کی علمی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار لانے میں آپ کی مدد کر سکیں۔

مخلص،



Rich Pollio
ڈائریکٹر، دفتر برائے ESOL سروسز